

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY, HYDERABAD

(Accredited "A+" Grade by NAAC)

Centre for Distance and Online Education

Assignment No. 2 (Unit 1 to 12)

Programme: B.Com. 4th Semester

Paper: Auditing Principles and Practicing

Max Marks:10

Last Date: See Notice

حصہ اول

(2.5 x 2 = 5)

نوٹ۔ کسی دو سوالوں کے جواب دیں۔

1۔ اندرونی چک کے مفہوم کو بیان کیجئے۔

2۔ لاگت تنقیح پر مختصر نوٹ لکھیے۔

3۔ تنقیح کے مختلف اقسام کو بیان کیجئے۔

4۔ آڈٹ نوٹ پر مختصر نوٹ لکھیے۔

حصہ دوم

(1 x 5 =5)

نوٹ: کوئی ایک سوال کا جواب دیجئے۔

5۔ تنقیح کی تعریف کرتے ہوئے اس کی اہمیت اور حدود کو بیان کیجئے۔

6۔ آڈیٹر کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے کمپنی آڈیٹر کی اہلیت اور نااہلیت کو بیان کیجئے۔

7۔ آڈٹ رپورٹ کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے رپورٹ کے ضروری عوامل کو بیان کیجئے۔

Assignment No. 3 (Unit 13 to 24)

Programme: B.Com. 4th Semester

Max Marks:10

Last Date: See Notice

حصہ اول

(2.5 x 2 =5)

نوٹ: کسی دو سوالوں کے جواب دیجئے

- 1- کرو بار کے سماجی ذمہ داریوں کے فوائد کو بیان کیجئے۔
- 2- کاروباری اخلاقیات کاروبار کے لیے ضروری ہے بحث کیجئے۔
- 3- کارپوریٹ اخلاقیات کی دو مثالیں دیجئے۔
- 4- کارپوریٹ گورننس پر مختصر نوٹ لکھیے۔

حصہ دوم

(1x5=5)

نوٹ کسی ایک سوال کا جواب دیجئے۔

- 5- کارپوریٹ گورننس کے مختلف ماڈلس کی وضاحت کیجئے۔
- 6- کارپوریٹ اخلاقیات کی تعریف کرتے ہوئے اس کی اہم خصوصیات کو بیان کیجئے۔
- 7- آڈٹنگ کے معیار پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔